

سبق - 9 ، سورة اللهب

1- عربی بول چال: ان کلمات کو کیسے (1) چھینک آنے پر، (2) چھینک آنے پر الحمد للہ کہنے والے کے جواب میں، (3) برکت اللہ کے جواب میں

1: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ،	2: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ،	3: يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ	وَيُصْلِحُ	بِالْكُمْ
تعریف و شکر ہے اللہ کے لیے،	آپ پر اللہ رحم کرے،	ہدایت دے آپ کو اللہ	اور درست کرے	تمہارے حال کو

2- گرامر: (1) حرف جر (فِی) قرآن کریم میں عمدہ اور نیچے دیے گئے سات ضمائر کے ساتھ 1658 بار آیا ہے۔ اس کی پریکٹس کیجئے۔ یہ یاد رہے کہ جب یہ حرف جر، فعل، اسم فاعل یا اسم مفعول کے ساتھ آئے تو اسکے معنی بدل سکتے ہیں۔

(2) امر و نہی کی TPI کو ساتھ پریکٹس کیجئے۔

• اَفْعَلُ کتے وقت تشدد کی انگلی سے سامنے کی جانب اس طرح (ہاتھ کو تھوڑا اوپر سے نیچے کی طرف لاتے ہوئے) اشارہ کریں گویا آپ سامنے والے کو حکم دے رہے ہوں۔ اَفْعَلُوا کے لیے یہی اشارہ چاروں انگلیوں سے کیا جائے۔

• لَا تَفْعَلُ کتے وقت تشدد کی انگلی سے سامنے کی جانب اس طرح (ہاتھ کو بائیں سے دائیں جانب لاتے ہوئے) اشارہ کریں گویا آپ سامنے والے کو منع کر رہے ہوں۔ لَا تَفْعَلُوا کے لیے یہی اشارہ چاروں انگلیوں سے کیا جائے۔

Imperative	أَمْرٌ	نَهْيٌ	Negative Imperative
اَفْعَلُ	کر	لَا تَفْعَلُ	مت کر
اَفْعَلُوا	کرو	لَا تَفْعَلُوا	مت کرو

فِي + ... میں	
فِيهِ	اس میں
فِيهِمْ	ان میں
فِيكَ	آپ میں
فِيكُمْ	آپ سب میں
فِيَّ	میرے میں
فِينَا	ہم میں

مؤنث کے لئے: فِيهَا اس میں

3۔ قرآن و حدیث سے: 3SP کے انداز میں پڑھیے۔

سورة المسد: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
تَبَّتْ	يَدَا	أَبِي لَهَبٍ	وَتَبَّتْ (1)
ٹوٹ گئے	دونوں ہاتھ	ابولہب	اور وہ ہلاک ہوا
مَا	أَغْنَىٰ عَنْهُ	مَالُهُ	وَمَا كَسَبَ (2)
نہ	کام آیا اس کے	اس کا مال	اور جو اس نے کمایا
سَيَصْلَىٰ	نَارًا	ذَاتَ لَهَبٍ (3)	
عنقریب داخل ہوگا	آگ	شعلے والی	
وَأَمْرَأَتُهُ	حَمَّالَةَ	الْحَطَبِ (4)	
اور اسکی بیوی	لادنے والی	لکڑی (ایندھن)	
فِي جِيدِهَا	حَبْلٌ	مِّن مَّسَدٍ (5)	
اسکی گردن میں	رسی	کھجور کی	

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ عنقریب داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں، اور اسکی بیوی لادنے والی ایندھن، اسکی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔

ہوم ورک: سات آسان ہوم ورکس کو یاد رکھیے، درک شیٹ کو پڑھیے، پیغام پر غور کرنے اور عمل کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔

سبق-9 ، سورة اللهب

1. عربی بول چال: ترجمہ کیجیے۔

1: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ،	2: يَرْحَمُكَ اللَّهُ،	3: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ
------------------------	------------------------	---

2. گرامر : عربی الفاظ لکھیے۔

Imperative أمر	Negative Imperative نَهْي
کر	مت کر
کرو	مت کرو

في ... + in
اس میں
ان میں
آپ میں
آپ سب میں
میرے میں
ہم میں

3. قرآن وحدیث سے : ترجمہ کیجیے۔

***** سورة المسد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *****			
تَبَّتْ	يَدَا	أَبِي لَهَبٍ	وَتَبَّتْ (1)
مَا	أَغْنَىٰ عَنْهُ	وَمَا	كَسَبَ (2)
سَيَصْلَىٰ	نَارًا	ذَاتَ لَهَبٍ (3)	
وَأَمْرَاتِهِ	حَمَالَةَ	الْحَطْبِ (4)	
فِي	جِيدِهَا	حَبْلٌ	مِّنْ مَّسَدٍ (5)

سبق نمبر - 9 : آج جو سبق آپ نے سیکھا ہے اس میں سے ان الفاظ کو لکھیے یا نشاندہی کیجیے جن کو آپ پہلے سے جانتے ہوں یا پچھلے اسباق میں آپ نے سیکھا ہو یا جن کے مادہ کے الفاظ اردو یا مانوس عربی الفاظ میں بھی وہی ہوں -

Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters		Arabic	Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters		Arabic
sg. أبُو، أبَا، أبِي. pl. آبَاء.	-	دونوں ہاتھ	أَبِي	رَحِمَ، يَرَحِمُ، ارْحَمُ، ...	ر ح م	اللہ رحم کرے تم پر	يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ
عَنِّي : أَعْتَى : کام آیا	غ ن ي	کام آیا	أَعْتَى	إِهْدِنَا: ہدایت دے ہم کو هِدَايَةَ : ہدایت	ه د ي	اللہ ہدایت دے آپ سب کو	يَهْدِيكُمُ اللَّهُ
کسب حلال، کسب حرام	ك س ب	اس نے کمایا	كَسَبَ	إِصْلَاحُ	ص ل ح	اور درست کرے	وَيُصْلِحُ
	ص ل ي	داخل ہوگا	يَصِلِي	تَبَّ اور تَبَّتْ اچھی طرح یاد رکھیے مذکر اور مؤنث کے لیے.	ت ب ب	ٹوٹ گئے	تَبَّتْ
mg. ذُو، ذَا، ذِي. of fg. ذَات : of	-	والی، والا، والے	ذَات	فَعَلَ :: اس نے کیا، فَعَلَتْ اس نے کیا	ت ب ب	ٹوٹ گئے	تَبَّ
mg. حَمَّال fg. حَمَّالَةٌ	ح م ل	لادنے والی	حَمَّالَةٌ	يَد: ہاتھ، يَدَان: دو ہاتھ (یہاں ن گر گیا ہے) لَيْدِي: ہاتھوں		دونوں ہاتھ	يَدَا

